

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا 63 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) 25 اکتوبر 2019 بروز جمعہ دوپہر 11:45AM بجے ہوٹل شالیمار، عزیز بھٹی شہید روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہو گا جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر بحث لائے جائیں گے:

1. 27 اکتوبر 2018 کو منعقد کردہ پچھلے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2019 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے (Audited accounts) بمع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 4 روپے فی حصص (40%) حتمی نقد ڈیویڈنڈ کو زیر غور لانا اور منظوری دینا۔ یہ ڈیویڈنڈ حصص داروں کو پہلے سے ادا کردہ 2 روپے فی حصص (20%) کے عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے، جس کو شامل کرنے سے 30 جون 2019 پر ختم ہونے والے سال کیلئے کل نقد ڈیویڈنڈ کی رقم 6 روپے فی حصص (60%) ہو جائے گی۔
4. 30 جون 2019 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG نائیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور اہل ہونے کے بنا ءپر انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
5. صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر معاملے کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

سید غوث الدین سیف، کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی

21 ستمبر 2019

نوٹس:

1. حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر 2019 سے 25 اکتوبر 2019 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور، کو 17 اکتوبر 2019 تک کاروباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی باضابطہ درخواستیں اوپر بتائے گئے حقوق کیلئے اہل سمجھی جائیں گی۔

2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم پر عملدرآمد کیلئے باضابطہ طور پر مکمل پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر کمپنی سیکرٹری کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانا چاہئے۔ پراکسی فارم لف ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق CDC میں اکاؤنٹ رکھنے والے افراد کو درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا:

(A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایسے افراد کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے شناخت کروانا ہو گی۔
- ii. کارپوریٹ اداروں کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ اجلاس میں شرکت کے وقت (اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا تو) مہیا کرنا ہو گا۔

(B) پراکسی مقرر کرنے کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، پراکسی فارم مندرجہ بالا ضابطے کے مطابق جمع کروائیں گے۔
- ii. پراکسی فارم کے 2 گواہ ہونے چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہونے چاہئے۔
- iii. اصل مالک اور پراکسی فرد کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔
- iv. اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فرد اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ دکھائے گا۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا تو) مہیا کرنا ہو گا۔

3.

ڈیویڈنٹ میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی :

01 جولائی 2019 سے نافذ العمل فنانس ایکٹ 2019 کی دفعات کے ذریعے انکم ٹیکس کی کٹوتی میں اصلاحات لائی گئی ہیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت نقد ڈیویڈنٹ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح اس وقت حسب ذیل ہے:

a.	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں شامل افراد کیلئے 15 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کی شرح
b.	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں غیر شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح

مشترکہ اکاؤنٹس میں حصص رکھنے والے حصص داروں کیلئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کا تعین علیحدہ علیحدہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح / ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں غیر شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کے مطابق کیا جائے گا جس میں انکی حصص میں ملکیت کے تناسب کو مدنظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ تمام مشترکہ حصص داروں سے درخواست ہے کہ حصص میں ملکیت کا تناسب نیچے دیئے گئے جدول کے مطابق تحریر کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر بھجوائیں۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) میں حصص رکھنے والے حصص داروں سے درخواست ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی کے بارے معلومات کی ایک نقل متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو بھی بھجوائیں یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں CDC کو بھجوائیں۔ اطلاع موصول نہ ہونے کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ تمام مشترکہ حصص دار حصص میں برابر ملکیت رکھتے ہیں:

کمپنی کا نام	فولیو / ID / اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل حصص دار	جو انٹ حصص دار
			ملکیت کا تناسب نام اور شناختی کارڈ نمبر (تعداد)	ملکیت کا تناسب نام اور شناختی کارڈ نمبر (تعداد)

شناختی کارڈ (CNIC) یا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی معلومات اب لازمی ہیں اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) سے ٹیکس سٹیٹس چیک کرنے کیلئے درکار ہے۔

4. انکم ٹیکس / زکوٰۃ سے استثنیٰ :

ایسے ممبرز جو انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کم شرح پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کروانا چاہتے ہیں، کو چاہئے کہ استثنیٰ کا کارآمد ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کروائیں۔ ایسے ممبرز جو زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے، انہیں چاہئے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرنے کا قانونی بیان جمع کروائیں۔

5. حصص دار کے بنک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنٹ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 (Companies Act, 2017) کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، حصص داروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل بنک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیل فراہم کریں تاکہ نقد ڈیویڈنٹ کی ادائیگی ڈیویڈنٹ وارنٹس کی بجائے براہ راست انکے بنک اکاؤنٹ میں کی جا سکے۔ SECP کے سرکلر نمبر 18 بتاریخ 01 اگست 2017 کی ہدایات کے مطابق حصص داروں سے درخواست ہے کہ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اپنے بنک اکاؤنٹس کی تفصیلات تحریری صورت میں جمع کروا دیں (اگر پہلے جمع نہیں کروائی گئی تو)۔ 17 اکتوبر 2019 تک ارکان کے بنک اکاؤنٹ کی درست تفصیلات نہ ملنے کی صورت میں کمپنی ایسے ارکان کو ڈیویڈنٹ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو جائے گی۔

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو قانونی ہدایات جمع کروائیں یا CDC کو جمع کروائیں اگر آپ CDC انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔

6. 2018-19 کے ختمی نقد ڈیویڈنٹ کی ادائیگی کیلئے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) جمع کروانا:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق، ڈیویڈنٹ کی ادائیگی کیلئے حصص داروں کے شناختی کارڈ نمبر لازمی درکار ہیں۔ اسلئے حصص داروں سے درخواست ہے کہ اپنے درست CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں (اگر پہلے جمع نہیں کروائی گئی تو)۔ کسی رکن کے درست CNIC کی عدم موجودگی میں، کمپنی ایسے ارکان کو ڈیویڈنٹ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو جائے گی۔

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو CNIC کی کاپی جمع کروائیں یا CDC کو جمع کروائیں اگر آپ CDC انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔

7. سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کو ای میل/سی ڈی/یو ایس بی/ ڈی وی ڈی یا کسی دیگر میڈیا (اختیاری) کے ذریعے فراہم کرنا :

SECP کی جانب سے جاری کردہ 2014 SRO 787(1) بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور 2016 SRO 470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارے (فنانشل پوزیشن کی سٹیٹمنٹ، نفع یا نقصان کی سٹیٹمنٹ، کمپری ہینسو انکم کی سٹیٹمنٹ، کیش فلو سٹیٹمنٹ، نوٹس برائے مالی گوشوارے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ) اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام ای میل / سی ڈی/یو ایس بی/ڈی وی ڈی یا کسی دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انکے رجسٹرڈ پتے پر بھجوا سکتی ہے۔ جو حصص دار مالی گوشواروں (Financial Statements) کی شائع کردہ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر دئیے گئے سٹیٹمنٹ درخواست فارم کو پُر کر کے کمپنی کے سٹیٹس رجسٹرار کو بھجوائیں۔

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو ای میل ایڈریس مہیا کریں یا CDC کو مہیا کریں اگر آپ CDC انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔

8. وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کیلئے درخواست:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق، اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں رہائش رکھنے والے ایسے حصص دار جو مجموعی طور پر کمپنی کے 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص کے مالک ہوں، سے اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت موجود ہونے کی صورت میں یہ سہولت مہیا کرے گی۔ یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے کمپنی سیکرٹری کو درخواست دیں۔

9. ان کلیمنٹ منافع/حصص:

وہ شیئر ہولڈر جو کسی وجہ سے اپنا منافع/حصص کسیم نہیں کر سکے ان کو مشورہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے مطابق، ضابطہ کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے وہ منافع جو تین سال یا مقررہ تاریخ سے زیادہ عرصے سے کلیم نہیں کیا گیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور حصص کی صورت میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس جمع کرا دئے جائیں گے۔

10. پتہ میں تبدیلی:

ارکان سے درخواست ہے کہ پتہ کی تبدیلی کی صورت میں فوراً اطلاع دیں۔

11. آڈٹ کردہ گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنی کے 30 جون 2019 پر مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ کردہ گوشوارے (Audited financial statements) کمپنی کی ویب سائٹ

www.Ferozsons-labs.com پر سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 21 دن پہلے مہیا کر دئیے گئے ہیں۔